

# English to Urdu Sentence

● Get the man killed.

● اس آدمی کو مروا ڈالو۔

 englishanofficial

● I have made up his loose.

● میں نے اسکا نقصان پورا کر دیا ہے۔

 englishanofficial

● We had better work, not speak.

● بہتر ہے ہم باتوں کے بجائے کام کریں۔

# English to Urdu Sentence

Where did you come from?

تم کہاں سے آرہے ہو؟

 englishanofficial

No. I'll go back.

نہیں میں واپس نہیں جاؤنگا۔

 englishanofficial

If you refused, he'd mind it.

اگر تم منع کر دو گے تو وہ برا منائے گا۔

# English to Urdu Sentence


Who's she to you?

وہ تمہاری کون لگتی ہے؟

 englishanofficial

It is sunny today?

آج سورج نکلا ہوا ہے۔

 englishanofficial

She was left watching.

وہ دیکھتی رہ گئی۔

# English to Urdu Sentence


What will you there?

تم وہاں کیا کرو گے؟

 englishanofficial

Don't mimic me.

میری نقل نہ اتارو۔

 englishanofficial

Look back.

پیچھے تو دیکھو۔

# English to Urdu Sentence


They might have informed us.

انہوں نے ہمیں اطلاع تو دی ہوتی۔

 englishanofficial

Me too.

میں بھی -

 englishanofficial


I was enjoying myself there.

میں وہاں مزے کر رہا تھا۔

# English to Urdu Sentence


I can say certain.

میں یقین سے کہہ سکتا ہوں۔

 englishanofficial

It must have been rained here last night

کل رات لازمی بارش ہوئی ہو گی۔

 englishanofficial

Didn't I say that he'd cheat you?

میں نہ کہتا تھا وہ تمہیں دھوکا دیگا۔

# English to Urdu Sentence


● He is very miser in the matter of money.

● وہ پیسے کے معاملے میں بہت کنجوس ہے۔



● Is there any use of flying kites?

● کیا پتنگیں اڑانے کا کوئی فائدہ ہے؟



● He will get used to wondering.

● اسے آوارہ گردی کرنے کی اُدت پڑ جائے گی۔

# English to Urdu Sentence


● He is very miser in the matter of money.

● وہ پیسے کے معاملے میں بہت کنجوس ہے۔

 englishanofficial

● Is there any use of flying kites?

● کیا پتنگیں اڑانے کا کوئی فائدہ ہے؟

 englishanofficial

● He will get used to wondering.

● اسے آوارہ گردی کرنے کی ادت پڑ جائے گی۔



# English to Urdu Sentence


● He must be sleeping.

● وہ ضرور سو رہا ہوگا۔

 englishanofficial

● I deal in leather.

● میں چمڑے کا کاروبار کرتا ہوں۔

 englishanofficial

● Would you play cricket or football?

● آپ کرکٹ کھیلیں گے یا فٹ بال؟

# English to Urdu Sentence


Let me pass.

مجھے گزرنے دو۔

 englishanofficial

Is there is any harm in sleeping out?

کیا باہر سونے میں کوئے حرج ہے؟

 englishanofficial

Hurry up, otherwise he will go.

جلدی کرو ورنہ وہ چلا جائے گا۔

# English to Urdu Sentence


Is there anything to laugh at?

کیا ہنسنے کی کوئی بات ہے؟

 englishanofficial

Didn't you understand it yet?

کیا تمہیں ابھی تک سمجھ نہیں آئی۔

 englishanofficial

I have got used to working now.

اب مجھے کام کرنے کی عادت پڑ گئی ہے۔

# English to Urdu Sentence

I heard that you would quit that job.

میں نے سنا ہے تم وہ نوکری چھوڑ دو گے۔

 englishanofficial

He seems to have lost the way.

لگتا ہے وہ راستہ بھول گیا ہے۔

 englishanofficial

Having seen the moon, we thanked Allah.

چاند دیکھنے کے بعد ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا

# English to Urdu Sentence


Do you work or read?

کیا تم پڑھتے ہو یا کام کرتے ہو؟

 englishanofficial

I am older than you.

میں تم سے بڑا ہوں

 englishanofficial

You speak as if you know everything.

تم تو ایسے بولتے ہو جیسے تمہیں سب کچھ معلوم ہے۔

# English to Urdu Sentence


Neither is that man nor woman.

وہ نہ ہی مرد ہے اور نہ عورت۔

 englishanofficial

A festival in Lahore.

لاہور میں ایک میلا ہے

 englishanofficial

Four men killed in road accident.

سڑک کے حادثے میں چار لوگ ہلاک ہو گئے

# English to Urdu Sentence


He didn't even see it.

اس نے تو اسے دیکھا بھی نہیں۔

 englishanofficial

You know nothing but weep.

تمہیں رونے کے علاوہ کچھ نہیں آتا۔

 englishanofficial

Where did you go after watching the movie?

تم فلم دیکھنے کے بعد کہا گئے تھے؟

# English to Urdu Sentence


What do you think I am?

تمہارے خیال میں، میں کون ہوں؟

 englishanofficial

He is found of flirting.

اسے دل لگی کرنے کا شوق ہے۔

 englishanofficial

Either believe me or have it your own way.

یا تو میری بات مان لو یا تو اپنی من مانی کر لو۔



# English to Urdu Sentence


● He never speaks of himself.

● وہ اپنی بات کبھی نہیں کرے گا۔

 englishanofficial

● I feel like drinking tea.

● میرا چائے پینے کا دل چاہتا ہے۔

 englishanofficial

● Against my will.

● میری مرضی کے خلاف۔

# English to Urdu Sentence


She is ready even now.

وہ تو اب بھی تیار ہے۔

 englishanofficial

Whether you love me or not, I love you

تم مجھے چاہو نہ چاہو میں تمہیں چاہتا ہوں۔

 englishanofficial

Didn't I say that he'd cheat you?

میں نہ کہتا تھا وہ تمہیں دھوکا دیگا۔

# English to Urdu Sentence


Everyone in my house is ill.

میرے گھر میں ہر ایک بیمار ہے۔

 englishanofficial

She doesn't have a son.

اس کے بیٹے نہیں ہیں۔

 englishanofficial

Didn't I say that he'd cheat you?

میں نہ کہتا تھا وہ تمہیں دھوکا دیگا۔